



لوگو! تم دو پود ایس کھات و جن میں مین خبیث (بدبودار و مکرو) سمجھتا وں یہ پود لسن اور پیاز ہیں

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: لوگو! تم دو پود ایس کھات و جن میں مین خبیث (بدبودار و مکرو) سمجھتا وں یہ پود لسن اور پیاز ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ جب آپ مسجد میں کسی سے ان کی بو محسوس کرتے تو آپ کے حکم سے اسے بقیع کی طرف نکال دیا جاتا چنانچہ جو کوئی انہیں کھائے، اسے چاہے کہ انہیں پکا کر ان کی بو ختم کر لے

[صحیح] [اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے]

عمر رضی اللہ عنہ خطبہ کے حاضرین کو بتا رہے ہیں کہ وہ دو مکرو پودوں یعنی پیاز اور لسن کو کھاتے ہیں۔ یہاں "خبث" سے مراد بدبو ہے عرب لوگ "خبث" کے لفظ کا اطلاق ہر برے اور ناپسند قول و فعل، مال، کھانے یا شخص پر کرتے ہیں۔ اس پر جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث دلالت کرتی ہے جس میں آیا ہے کہ نبی نے فرمایا: جو شخص یہ بدبودار پودا کھائے وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے (مسلم) "التبصل والثوم" (پیاز اور لسن) اور ہر وہ شخص جو بدبودار ہو جیسے مولیٰ، کراث وغیرہ اور خاص طور پر تمباکو اور سگریٹ لسن اور پیاز کو بطور خاص ذکر کیا گیا کیونکہ کھانے میں ان کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے مسلم شریف میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں تو کراث کا صراحتاً ذکر کیا گیا ہے "جب آپ کو کسی آدمی سے ان دونوں پودوں کی بو آتی تو آپ کے حکم سے اسے بقیع کی طرف نکال دیا جاتا" نبی سے مسجد سے نکالنے پر اکتفا نہ کرتے بلکہ بطور سزا اسے مسجد سے دور بقیع تک پہنچا دیتے، کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور اسی طرح فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے البتہ جو انہیں کھانا چاہتا ہے وہ انہیں پکا کر ان کی بو مار دے، کیونکہ پکانے سے ان کی بدبو جاتی رہتی ہے اور بو ختم ہو جانے کے بعد مسجد میں آنا جائز ہے کیونکہ ممانعت کی علت باقی نہیں رہتی۔ معاویہ بن قریب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا: "اگر تم میں ان کو کھانا ہے تو پکا کر ان کی بو کو مار دو" (ابو داؤد) پکا کر ان کی بو مارنے کا حکم اس وقت کے لیے ہے جب اس کا نماز یا نماز کے علاوہ کسی اور غرض سے مسجد میں آنے کا ارادہ ہو تو اگر نماز کا وقت نہ ہو تو پھر ان کو کچا کھا لینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ ان کو کھانا تو مباح ہے پکانے کا حکم صرف اس لیے ہے کہ (کچا کھانے سے بدبو پیدا ہوتی ہے اور اس سے لوگوں کو) اس سے تکلیف ہوتی ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/8953>